

48994 - بارہ تاریخ; ک; 1740#&رم; ک; 1740#&مے; 1740#&رہ; 1740#&

سفر کرگیا

سوال

میں نے حج کے بعد بارہ تاریخ کو چارجے سے پہر کی سیٹ اوکے کروا رکھی تھی اور میرا خیال تھا کہ میں اس دن کی رمی کر لوں گا ، لیکن مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں نے زوال کے بعد رمی کی تو سفر سے رہ جاؤں گا لہذا میں نے صبح ہی رمی کر لی اور طواف و داع کر کے سفر کر گیا ، لہذا مجھ پر کیا واجب آتا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

زوال سے قبل رمی کرنا جائز نہیں ہے ، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس حالت میں ضرورت کی بنا پر اس سے ہم رمی ساقط کر دیں اور اسے ہم یہ کہیں کہ :

آپ پر ایک بکرا فدیہ لازم آتا ہے جو مکہ میں ذبح کر کے وہاں کے مساکین میں تقسیم کیا جائے ، یا پھر آپ کسی کو وکیل بنا دیں جو وہاں آپ کی جانب سے ذبح کر کے تقسیم کر دے .